



اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں، عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی، جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا

زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے: "اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں، عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی، جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا" آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کے ذریعے حلق بنا کر اس کی وضاحت کی ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے، اس کے باوجود ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں! جب خباثیں بڑھ جائیں گی"

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے اور گھبرائے ہوئے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے: "لا إله إلا الله" یہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ کوئی ناپسندیدہ امر سامنے آنے کی توقع ہے، جس سے نجات کا راستہ التجا الی اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرب کی تباہی اس شر سے آنے والی ہے، جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا آپ نے یہ کہتے وقت انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کے ذریعے حلق بنا کر دکھایا اور مذکورہ دیوار دو القرنین کی بنائی ہوئی تھی اتنا سننے کے بعد زینب رضی اللہ عنہا نے کہا: بھلا اللہ ہمیں ہلاک کیسے کر دے گا، جب کہ ہمارے درمیان ایمان والے صالح لوگ بھی موجود رہیں گے؟ جواب میں آپ نے فرمایا: جب گندے کام، جیسے فسق و فجور، گناہ اور شراب نوشی وغیرہ، بڑھ جائیں گے، تو ہلاکت سب کو اپنے گھیرے میں لے لیگی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3145>

